

جون 2021

محترم والدین اور سرپرست :

ہم نے موسم بہار میں طلباء مردم شماری (Student Census) کے پروموشن کے دوران یہ ذکر کیا تھا کہ ہم مردم شماری کی بعد فلاح و بہبود کا سروے، مڈل اینرز ڈیولپمنٹ انسٹرومنٹ (ایم ڈی آئی (Middle Years Development Instrument (MDI)) فراہم کریں گے، گریڈز 4 سے 12 تک کے بچوں اور نوجوانوں سے کووڈ-19 کے دوران ان کے تجربات اور فلاح و بہبود کے بارے میں براہ راست سننے کے لئے۔

کلاس کے وقت کے دوران ایم ڈی آئی (MDI) کی تقسیم کاری کے بجائے، ہم آپ کو سروے کا لنک فراہم کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ اپنے بچوں کے شریک ہونے پر رضامند ہوں تو، آپ اپنے گریڈ 4 سے 12 تک کے بچے یا بچوں کو یہ فراہم کریں :

گریڈز 4 سے 12 کے لئے ایم ڈی آئی (MDI) کا لنک: <https://ca.research.net/r/MDIgr4-12>

اس وقت اسکولوں میں رکاوٹیں اور غیر یقینی صورتحال ہمارے بورڈ کے سالانہ منصوبے کے قدم کے طور پر ایم ڈی آئی کی تقسیم کاری سے ہمیں روکتی ہے۔ ہم اگلے تعلیمی سال کے دوران ہم کلاس روموں میں ایم ڈی آئی (MDI) کو مکمل طور پر نافذ کریں گے۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ سال بہت سے بچوں اور نوجوانوں پر مشکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لئے اعداد و شمار جمع کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس عالمی وبا کی وجہ سے ان کی فلاح و بہبود اور تاثرات پر اثرات کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ ہم اس اہم اور تاریخی وقت کے دوران فلاح و بہبود کی پیمائش کے لئے ایم ڈی آئی (MDI) کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایم ڈی آئی (MDI) کے نتائج کو بچوں اور نوجوانوں کے پروگراموں، معاونت اور خدمات سے آگاہ کرنے کے لئے استعمال کریں گے، جو کووڈ-19 عالمی وبا سے صحت مند ہو کر ترقی کرنے اور تندرست ہونے کو فروغ دیتے ہیں۔

ایم ڈی آئی (MDI) فلاح و بہبود کی پیمائش کرنے کا ایک تجربہ کار ذریعہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس وقت استعمال کرنے کا یہ صحیح ٹول ہے۔ ایم ڈی آئی (MDI) کو یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا (یو بی سی) میں ہیومن اری لرننگ پارٹنرشپ (ایچ ای ایل پی) [ہیومن اری لرننگ پارٹنرشپ \(ایچ ای ایل پی\) \(HELP\) Human Early Learning Partnership](#) کے محققین نے گریڈز 4 سے 8 کے بچوں کے لئے تیار کیا تھا۔ ہم نے گریڈز 9 سے 12 کے نوجوانوں کی اس کی مطابقت کے لئے یو بی سی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ سروے میں بچوں اور نوجوانوں کو اسکول اور معاشرے میں درج ذیل علاقوں میں ان کے خیالات، احساسات اور تجربات کے بارے میں پوچھا گیا ہے:

1. معاشرتی اور جذباتی نشوونما، جیسے خود اعتمادی، امید پرستی، خوشی اور ہمدردی؛
2. اسکول، کنبے، دوستوں، اور کمیونٹیز سے ربط پیدا ہونے کا احساس؛
3. اسکول کے تجربات؛
4. جسمانی صحت اور بہبود؛ اور
5. اسکول کے اوقات کے بعد کے وقت کا استعمال، نیز طلباء کی اسکول کے بعد کے وقت (after-school time) کی خواہشات۔

ان عنوانات میں سے ہر ایک میں سوالات کی اقسام کی مکمل تفصیل کے لئے، براہ کرم ملاحظہ کریں: www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/md/ اگرچہ ہم بچوں اور نوجوانوں سے براہ راست سننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایم ڈی آئی (MDI) کو پُر کرنے کے لئے مدد کی ضرورت ہے تو، براہ کرم آپ جیسا مناسب سمجھیں ان کی مدد کریں۔ سوالات پر آپ کے بچے کے جوابات کو خفیہ رکھا جائے گا اور انہیں نا معلوم انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ہم طلباء کے شناخت کار (جیسے طالب علم کا نمبر یا نام) جمع نہیں کر رہے ہیں۔ صرف ریسرچ اینڈ اینالٹکس ڈیپارٹمنٹ (Research & Analytics Department) کے عملے کو سروے کے اعداد و شمار تک رسائی حاصل ہوگی اور وہ ہمارے اسکولوں، بورڈ، اور کمیونٹی شراکت داروں کے لئے بچوں اور نوجوانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لئے گمنام، تخلیصی رپورٹس بنائیں گے۔ اگر کسی سوال کا جواب وہ نہیں دینا چاہیں تو، بچے اور نوجوان اس سوال کو جواب دئے بغیر چھوڑ سکتے ہیں۔ ایم ڈی آئی (MDI) میں اس بارے میں معلومات موجود ہیں کہ اگر وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اگر انہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کس شخص تک رسائی کر سکتے ہیں۔

اپنے بچے کے سروے کے اعداد و شمار کی رازداری سے متعلق سوالات یا خدشات کے لئے، براہ کرم privacy@hwdsb.on.ca سے رابطہ کریں۔ خود سروے کے بارے میں سوالات کے لئے، براہ کرم research@hwdsb.on.ca سے رابطہ کریں۔ اگر آپ اپنے بچے کی ذہنی صحت اور تندرستی کے بارے میں فکر مند ہیں تو، ہمارے وسائل کا صفحہ یہاں دیکھیں:

HWDSB

HUMAN
EARLY LEARNING
PARTNERSHIP



MIDDLE YEARS
DEVELOPMENT
INSTRUMENT

www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/

اس غیر معمولی وقت کے دوران اپنے طالب علم کو اس سروے میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر غور کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ ان کے شریک ہونے پر راضی ہیں تو براہ کرم انہیں مناسب لنک بھیجیں۔

ایم ڈی ائی (MDI) ٹیم